

PRESS RELEASE

For immediate release

April 7, 2022

SECP launches online portal for easy exit of defunct companies'

ISLAMABAD, April 7: The SECP, to facilitate the closure of companies, has launched an online portal of Companies Easy Exit Scheme, automating and simplifying the process of easy exit.

Section 426 of the Companies Act, 2017, and its corresponding regulations, the Companies (Easy Exit) Regulations, 2014, deal with the easy exit of a defunct company. According to this legal framework, a private or public unlisted company which ceases to operate and has no known assets and liabilities, may apply directly to the registrar to strike its name off the register of companies instead of submitting a winding up petition to the court.

The procedure of easy exit was previously carried out manually by filing an application to the SECP. However, with the launch of online portal, easy exit will be processed online.

The easy exit online portal is another initiative of SECP towards complete automation and digitalization to facilitate the corporate sector.

ایس ای سی پی نے کمپنیوں کے باآسانی اخراج کے لیے آن لائن پورٹل لانچ کر دیا

اسلام آباد، 6 اپریل: سیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے کمپنیوں کے باآسانی اخراج یعنی ڈائریکٹرز کی جانب سے ایزی ایگزٹ اسکیم کے تحت کمپنیوں کو بند کرنے کی درخواست دائر کرنے کے لئے آن لائن پورٹل تشکیل دی ہے جو خود کار اور آسان اخراج کے عمل کو یقینی بناتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کا سیکشن 426، اور اس سے متعلقہ ضوابط، کمپنیز (ایزی ایگزٹ) ریگولیشنز، 2014 کے قانونی فریم ورک کے مطابق، کوئی بھی پرائیویٹ یا پبلک ان لسٹڈ کمپنی جو کہ کام کرنا بند کر چکی ہو اور جس کے کوئی اثاثے اور مالی ذمہ داریاں اور لین دین نہ ہو، ایس ای سی پی کے کمپنیوں کے رجسٹر سے اپنا نام ہٹانے کے لیے براہ راست رجسٹرار کو درخواست دے سکتی ہے۔ ایسی کمپنیوں کو عدالت میں وائینڈنگ اپ درخواست جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ایزی ایگزٹ کے تحت درخواست دائر کرنے کا طریقہ کار منقول تھا جیسے کہ ان آن لائن کر دیا گیا ہے۔ کمپنیوں کے آسان ایگزٹ کے لئے آن لائن پورٹل ایس ای سی پی کی آٹومیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ایک اور قدم ہے۔